



## ایم سی سی نے ملتان سلطانز کو 72 رنز سے شکست دے دی

- روی بوپارہ اور کمار سنگاکارا کی نصف سنچریاں
- عمران قیوم کے 4 شکار

لاہور، 19 فروری 2020ء:

ایچیسن کالج لاہور میں کھیلے گئے ٹی ٹوٹی میچ میں ایم سی سی نے ملتان سلطانز کو 72 رنز سے شکست دے دی۔ 47 سال بعد پاکستان کے دورہ پر آئی ایم سی سی کو 4 میں سے 2 میچوں میں فتح اور 2 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

ایم سی سی نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 184 رنز بنائے۔ روی بوپارہ اور کمار سنگاکارا نے نصف سنچریاں اسکور کیں۔ جواب میں ملتان سلطانز کی پوری ٹیم 112 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ ایم سی سی کے عمران قیوم نے 4 کھلاڑیوں کو پولین کی راہ دکھائی۔

تفصیلات کے مطابق ایم سی سی کے کپتان سنگاکارا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ 53 رنز پر ابتدائی تین وکٹیں گرنے کے بعد روی بوپارہ اور کپتان کمار سنگاکارا کے درمیان 89 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ دونوں کھلاڑیوں نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے ایم سی سی کو اسکور بورڈ پر بڑا مجموعہ لگانے میں مدد کی۔ روی بوپارہ نے 37 گیندوں پر 7 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 70 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ کمار سنگاکارا 35 گیندوں پر 3 چوکوں اور 3 چھکوں کی بدولت 52 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ایم سی سی نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 184 رنز بنائے۔ ملتان سلطانز کے علی شفیق نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔

مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں خوشدل شاہ اور ذیشان اشرف کے علاوہ ملتان سلطانز کا کوئی بلے باز بھی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکا۔ ملتان سلطانز کی پوری ٹیم 17.4 اوورز میں 112 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ خوشدل شاہ نے 26 گیندوں پر 45 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ ذیشان اشرف 20 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ایم سی سی کے عمران قیوم نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

**ABOUT THE PCB**

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



[www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)   
[@therealpcb](https://twitter.com/therealpcb)   
[@PakistanCricketBoard](https://twitter.com/PakistanCricketBoard)   
[@PakistanCricketOfficial](https://twitter.com/PakistanCricketOfficial)   
[@therealpcb](https://twitter.com/therealpcb) 

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4